



AUSTRALIAN HIGH COMMISSION ISLAMABAD

پریس ریلیز

آسٹریلیا کی امداد بلے بالا پنجاب میں صاف پینے کا پانی اور حفظان صحت کی سہولیات فراہم کر رہی ہے

پاکستان میں آسٹریلوی ہائی کمشنر، مارگریٹ ایڈمزسن نے آج بلے بالا پنجاب میں ایک منصوبے کا افتتاح کیا جس میں صاف پینے کے پانی اور بہتر صفائی کی سہولیات فراہم کی جائے گی۔

صاف پینے کے پانی کی فراہمی اور گندے پانی کے ذخیرے اور ٹریٹمنٹ کی اس سہولت کو آسٹریلیا کی حکومت کی طرف سے فنڈ کیا گیا اور پلان انٹرنیشنل اس کی فراہمی میں مدد کرے گا۔

ہائی کمشنر ایڈمزسن نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ آسٹریلوی حکومت آسٹریلوی سول سوسائٹی واٹر صفائی اور حفظان صحت (واش) فنڈ کے تحت اس منصوبے کے آغاز میں مدد کر رہی ہے۔ یہ منصوبہ بلے بالا کی مقامی کمیونٹی اور حکومت کے محکموں کے ساتھ مل کے بہتر پانی، حفظان صحت کے اصولوں کو فروغ دینے اور حفظان صحت تک رسائی کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا۔

محترمہ ایڈمزسن نے کہا کہ صاف پینے کے پانی، حفظان صحت کی سہولیات تک بہتر رسائی ایک کمیونٹی کی صحت اور معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔"

محترمہ ایڈمزسن نے روپووال میں ایک لڑکیوں کے ہائی سکول کا دورہ کیا جہاں بہتر پانی اور حفظان صحت کے اصولوں کو فروغ دینے کے لئے انٹرایکٹو ڈسپلے کے ساتھ واش روم نصب کیے گئے ہیں۔

محترمہ ایڈمزسن نے پانی، حفظان صحت اور غذائیت کے درمیان مضبوط رابطے کا ذکر کیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق، ناقص پانی، اور حفظان صحت کی سہولیات کی وجہ سے پاکستان میں 50 فی صد انفیکشنز غذائیت سے منسلک ہوتا ہے۔

مس ایڈمزسن نے کہا کہ "پاکستان میں غذائیت سے متعلق معاونت آسٹریلوی حکومت کے لئے ایک ترجیح ہے، ہمارے اس امدادی منصوبے میں صوبائی حکومتوں کی مدد سے غذائیت سے متعلق خدمات کو بہتر بنانے کے اقدامات شامل ہے۔"

سول سوسائٹی واش فنڈ، ایشیا پیسیفک اور افریقہ میں صحت سے منسلک پروگراموں کو فراہم کرنے کے لئے 13 سول سوسائٹی تنظیموں کی مدد کرتا ہے۔ پاکستان میں، آسٹریلیا نے خیبر پختونخواہ میں بین الاقوامی ریسکیو کمیٹی کے ساتھ مل کے ایسے ایک منصوبے کو سپورٹ کر رہا ہے۔

صحافیوں اور ایڈیٹرز کے لئے نوٹ: مزید معلومات کے لئے، برائے مہربانی آسٹریلوی ہائی کمشنر کے میڈیا اینڈ پبلک ڈپلومیسی ڈپارٹمنٹ سے اس ای میل پہ رابطہ کریں: media.islm@dfat.gov.au